



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

November 15, 2023

Committee formed for operational readiness of issuance of Govt Debt Securities at PSX

ISLAMABAD, November 15: The Ministry of Finance has formed a committee, comprising experts from the financial sector, to finalize the modalities for the issuance and trading of government securities on the Pakistan Stock Exchange (PSX).

The Committee, headed by the Chairman, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Mr. Akif Saeed, is mandated to develop the overall infrastructure, including the required systems and processes with sufficient operational efficiency, transparency, and readiness for the issuance, registration, trading, and transfer of government debt securities through PSX. The Committee will work in a manner that instils investor confidence and addresses prevailing operational challenges.

The Committee will review and evaluate the operational capabilities of PSX, CDC, and NCCPL and the available infrastructure and trading system for the issuance, registration, and transfer of government debt securities. It will collaborate with all stakeholders, including the Ministry of Finance, SBP, SECP, and PSX, to provide a seamless integration of existing practices to ensure market integrity and investor protection in trading GDS at PSX. The Committee will also develop proposals for the introduction of an efficient surveillance mechanism and risk management system and propose necessary changes in the regulatory framework.

The other members of the Committee include Mr. Mohsin Mushtaq Chandana, Director General Debt, Finance Division; Mr. Muhammad Ali Malik, Executive Director, SBP; Mr. Abdul Rehman Warriach, Commissioner SECP; Mr. Farrukh Khan, CEO PSX; Mr. Baddiudin Akber, CEO Central Depository Company; Mr. Muhammad Luqman, CEO National Clearing Company of Pakistan; Mr. Risha Moyudin, Treasurer HBL; Mr. Muhammad Ismail Usuf, Treasurer National Bank of Pakistan; Mr. Ahmed Ali Siddiqui, Group Head, Shariah Compliance, Meezan Bank; Mr. Asif Qureshi, CEO Optimus Capital Management; and Mr. Yasir Qadri, CEO UBL Fund Managers Limited.

گورنمنٹ ڈیپٹ سیکیورٹیز اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اجراء کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی

اسلام آباد (نومبر 15) وزارت خزانہ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اجراء اور ٹریڈنگ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب عاکف سعید کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔

کمیٹی، جس میں نجی شعبے کے ماہرین شامل ہیں، ڈیپٹ سیکیورٹیز کے اجراء کے لئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی، نیشنل کلئرنگ کمپنی کے دستیاب انفراسٹرکچر اور اس حوالے سے ان اداروں کی صلاحیت اور آپریشنل کارکردگی کو جانچتے ہوئے، سرکاری ڈیپٹ سیکیورٹیز کے اجراء کا نظام وضع کرے گی۔ کمیٹی سرکاری قرض کی سیکیورٹیز کی رجسٹریشن، ٹریڈنگ اور ٹرانسفر کا طریق کار بھی متعین کرے گی۔

یہ کمیٹی دیگر اسٹیک ہولڈروں بشمول وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، کلئرنگ کمپنی، سینٹرل ڈیپازٹری اور نجی شعبے کے ساتھ رابطہ رکھے گی۔ کمیٹی ڈیپٹ سیکیورٹیز کی ٹریڈنگ میں مارکیٹ کے استحکام اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ایک موثر نگرانی کے طریقہ کار اور رسک مینجمنٹ سسٹم کے لیے تجاویز بھی تیار کرے گی اور ریگولیٹری فریم ورک میں ضروری ترامیم تجویز کرے گی۔

کمیٹی کے دیگر اراکین میں جناب محسن مشتاق چندانہ، ڈائریکٹر جنرل ڈیپٹ فنانس ڈویژن؛ جناب محمد علی ملک، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اسٹیٹ بینک؛ جناب عبدالرحمن وڑائچ، کمشنر ایس ای سی پی؛ جناب فرخ خان، چیف ایگزیکٹو پی ایس ایکس؛ جناب بدیع الدین اکبر، چیف ایگزیکٹو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی؛ جناب محمد لقمان، چیف ایگزیکٹو نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان؛ جناب ریشا مویودین، خزانچی حبیب بنک لمیٹڈ؛ جناب محمد اسماعیل یوسف، خزانچی نیشنل بینک آف پاکستان؛ جناب احمد علی صدیقی، گروپ ہیڈ، شریعہ کمپلائنس، میزان بینک؛ جناب آصف قریشی، چیف ایگزیکٹو آپٹیمس کپٹل مینجمنٹ؛ اور جناب یاسر قادری، چیف ایگزیکٹو یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیٹڈ شامل ہیں۔